



### کرونا وائرس کی بیماری (کووڈ-19) کے ردعمل میں برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں تبدیلیاں

برامپٹن، آن (19 مارچ 2020) – کرونا وائرس سے مؤثر طور پر نمٹنے اور برامپٹن ٹرانزٹ کی جانب سے کمیونٹی کی خدمات کو محفوظ تر بنانے کے لیے بس سروس میں 23 مارچ سے درج ذیل شیڈول کے مطابق کمی لائی جا رہی ہے:

**پیر تا جمعہ:** سیچرڈے سروس میں اضافہ - بعض روٹس پر اضافی بسیں چلائی جائیں گی اور صبح کے اوقات کے کچھ مخصوص ٹریس میں بھی اضافہ کیا جائے گا  
**ہفتہ:** ریگولر سیچر ڈے سروس  
**اتوار:** اتوار کے دن کی ریگولر سروس

اضافہ شدہ سیچرڈے سروس کے بارے میں تفصیلات کو بروز جمعہ مورخہ 20 مارچ کو بوقت شام 4:30 بجے [bramptontransit.com](http://bramptontransit.com) پر شائع کیا جائے گا۔

برامپٹن ٹرانزٹ ٹرمینلز اور اس کے رابطہ سنٹر اپنے کام کے عمومی اوقات کار کے مطابق فعال رہیں گے۔ اوقات کار میں لائی جانے والی ہر قسم کی تبدیلیوں کو [bramptontransit.com](http://bramptontransit.com) پر شائع کر دیا جائے گا۔

برامپٹن ٹرانزٹ ایک انتہائی اہم سروس ہے اور اپنی کمیونٹی کی معاونت کے لیے پُر عزم ہے۔ تعاون کے لیے ہم اپنے کسٹمرز کے شکر گزار ہیں۔

کمیونٹی میں کرونا وائرس کی بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے، برامپٹن ٹرانزٹ درج ذیل اقدامات اٹھائے گی:

- سواریوں کے درمیان فاصلہ بڑھانے کے لیے بسوں پر گنجائش سے آدھے مسافر ہی بٹھائے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ بسوں میں آدھی سواریاں موجود ہونے کی صورت میں دوسرے اسٹاپس سے سواریاں نہیں بٹھائی جائیں گی۔ اسٹاپوں پر موجود سواریوں کو مزید بسوں کے ذریعے اٹھانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔
- زیادہ مصروف روٹس پر جڑی ہوئی بسیں چلائی جائیں گی تاکہ سفر کے دوران مسافر ایک دوسرے سے مناسب فاصلہ رکھ سکیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جڑی ہوئی زوم بسوں کو باقاعدہ روٹس پر بھی دیکھا جا سکے گا۔ براہ کرم بسوں پر آویزاں کردہ منازل کی معلومات پر خصوصی توجہ دیں۔
- اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ملازمین سمیت بس میں سوار تمام لوگوں درمیان مناسب فاصلہ موجود ہو، نشستوں کو پیلے رنگ کی ٹیپ سے بند کر دیا جائے گا اور مسافروں سے گزارش کی جائے گی کہ وہ ان نشستوں پر نہ بیٹھیں۔

صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کارروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کے کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 48 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ مسافروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سفر کے لیے اپنی ذاتی جراثیم کش اشیاء مثلاً ہینڈ سینیٹائزر یا تولیے وغیرہ اپنے ساتھ لائیں اور اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں۔

خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے شراکت داروں پیل پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجینسی میڈیسن آفس کے ساتھ قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔ باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے [www.brampton.ca/covid19](http://www.brampton.ca/covid19) ملاحظہ کریں [bramptontransit.com](http://bramptontransit.com) یا سروس اپ ڈیٹس کے لیے [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) کو فالو کریں۔



# BRAMPTON

## Service and Information Update

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

### میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)